



## سوال

(78) نماز فجر اور نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نماز فجر اور نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سورج کے طلوع و غروب اور زوال کے وقت کسی قسم کا سجدہ کرنا یا نماز شروع کرنا درست نہیں۔ ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کیا جاسکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد فجر کی سنتیں ادا کرنے کا ثبوت حدیث تقریری سے ملتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح سبھی نمازیں مثلاً تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء، نماز جنازہ، سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز وغیرہ ادا کی جاسکتی ہے۔ اسی بنا پر سجدہ تلاوت بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عصر بھی کیا جاسکتا ہے۔ تاہم سبھی نمازوں اور قضا نمازوں کے علاوہ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ افکار اسلامی

قرآن اور تفسیر القرآن، صفحہ: 215

محدث فتویٰ